

جنون

جنوں کا ذکر عام ہے
جنوں کا ایک نام ہے

فُسوں ہے تو جنون ہے
فُغاں ہے تو جنون ہے
جو بے خرد کھڑا ہوا تو کہہ دیا جنون ہے
جو سر پھرا بڑا ہوا تو کہہ دیا جنون ہے
جو زندگی کی بھیڑ میں الجھ گیا تو کہہ دیا
جو راستوں کی گرد میں بھٹک گیا تو کہہ دیا
میں بے خرد ہی ٹھیک ہوں
مجھے ذرا جنون ہے

جنون اس طرح نہیں
نہیں جنون یوں نہیں
جنوں فقط فُغاں نہیں
جنوں فقط فُسوں نہیں

جنوں تو امتحان ہے
بڑا کڑا رہا سفر، یہ اس کا اک نشان ہے

مزاج زیست ہے وہ حوصلوں کو آزمائے گی
سو طے کرے کہ کونسا بشر کہاں تلک چلے
پُئے کہ کون تھک گرے، پُئے کہ کون پھر چلے
سفر کی ان صعوبتوں میں کس کا کیا مقام ہے
کہ کون تشنہ کام ہے کہ کس کے ہاتھ جام ہے

جنوں بھی ایک جام ہے
شعورِ ذات کے لیے جنوں انتظام ہے
جنوں خرد کی ضد نہیں
یہ آگہی کے راستے پہ منزلوں کے پاس کا مقام ہے

جنوں سنگِ میل ہے
مقامِ عقل سے گزر گئے ہو، یہ دلیل ہے!
جہاں پہ ذات بٹ گئی ہو حوصلہ بچانہ ہو
جنوں، وہاں بھی تھک کے گر نہ جائیں، یہ سبیل ہے!